



FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMPETITIVE EXAMINATION - 2017
FOR RECRUITMENT TO POSTS IN BS-17
UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT

Roll Number

COMPARATIVE STUDY OF MAJOR RELIGIONS
(FOR NON MUSLIMS)

TIME ALLOWED: THREE HOURS	PART-I (MCQS)	MAXIMUM MARKS = 20
PART-I(MCQS): MAXIMUM 30 MINUTES	PART-II	MAXIMUM MARKS = 80
NOTE: (i) Part-II is to be attempted on the separate Answer Book.		
(ii) Attempt FOUR questions from PART-II. ALL questions carry EQUAL marks.		
(iii) All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different places.		
(iv) Candidate must write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q.Paper.		
(v) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must be crossed.		
(vi) Extra attempt of any question or any part of the attempted question will not be considered.		

PART-II

- Q. No. 2.** Write a comprehensive note on Hindu Puranas, types and numbers. Explain its importance in Hindu literature. (20)
- Q. No. 3.** Write a comprehensive note on basic teachings of Judaism in the light of basic principles of Jewish Philosopher Memonides. (20)
- Q. No. 4.** Islam educates tolerance for other religions. Explain in the light of Quran and Sunnah and biography of Prophet Muhammad (PBUH). (20)
- Q. No. 5.** Which ethical system presented Buddha to his followers? Write a comprehensive contemporary situation of Buddhism. (20)
- Q. No. 6.** Why Zoinism movement came into being? Write a brief note on its history and explain the concepts of Jewish sect "Reform Judaism". (20)
- Q. No. 7.** Write an introductory note on Catholic and Protestant. Also compare their concepts and beliefs. (20)
- Q. No. 8.** Write a detailed note on golden age of Hazrat Umar (R.A) and also explain how reforms of Hazrat Umar (R.A) can be beneficial in current age? (20)

URDU VERSION

- سوال نمبر 2: ہندو پُرانوں پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ نیز انکی اقسام اور تعداد واضح کرتے ہوئے بتائیں ہندومت کے لٹریچر میں انکی کیا اہمیت ہے؟ (20)
- سوال نمبر 3: یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون کے پیش کردہ عقائد و اصول کی روشنی میں یہودیت کی بنیادی تعلیمات پر جامع سذرہ قلمبند کریں۔ (20)
- سوال نمبر 4: اسلام دیگر مذاہب کے لیے برداشت اور رواداری کی واضح تعلیم دیتا ہے۔ قرآن و سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں وضاحت کریں۔ (20)
- سوال نمبر 5: گوتم بدھ نے اپنے پیروکاروں کو اخلاقیات کا کیا نظام دیا؟ نیز بدھ مت کے عصر حاضر میں احوال و اشاعت پر جامع نوٹ لکھیں۔ (20)
- سوال نمبر 6: صہیونیت کی تحریک کیونکر وجود میں آئی؟ اسکی تاریخ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نیز اصلاح یافتہ یہودیت نامی فرقہ کے نظریات زیر بحث لائیں۔ (20)
- سوال نمبر 7: رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا تعارف پیش کرتے ہوئے ان کے عقائد و نظریات کا باہم تقابل پیش کریں۔ (20)
- سوال نمبر 8: حضرت عمر فاروقؓ کے زرین عہد کے احوال و اصلاحات بیان کرتے ہوئے واضح کریں کہ عصر حاضر میں کس طرح فاروقی عہد کی اصلاحات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ (20)
